

## 95782- فر کے بعد پیٹھ کر مکمل حج کا اجر پا نے اور حقیقی طور پر حج کرنے کے اجر میں فرق

### سوال

حقیقی طور پر مکمل حج کرنے اور نماز فر بر کے بعد طلوع آفتاب تک پیٹھ کر دور کعت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو شخص ایسے کرتا ہے اس کیلئے مکمل ترین حج کا اجر ہے، یہ آپ نے تین بار فرمایا۔

### پسندیدہ جواب

نماز فر بر سے لیکر طلوع آفتاب تک پیٹھ رہنا اور پھر دور کعت نماز ادا کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ: (جو شخص باجماعت فر بر کی نماز ادا کرے اور پھر پیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر دور کعت نماز ادا کرنے کے تو اس کیلئے مکمل، مکمل، مکمل حج و عمرہ کرنے کا ثواب ہو گا۔)

ترمذی: (586) اس حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، چنانچہ کچھ اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ دیگر اہل علم نے حسن کہا ہے، اس حدیث کو حسن قرار دینے والوں میں البانی رحمہ اللہ بھی ہیں انہوں نے اسے "صحیح ترمذی" میں حسن کہا ہے۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا:

"اس حدیث کی ایسی اسناد ہیں جن پر اعتقاد کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس روایت کو حسن لغیرہ میں شامل کیا جائے گا، یہ نماز سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے کے بعد پڑھی جائے گی، یعنی سورج طلوع ہونے سے تقریباً 15 یا 20 منٹ کے بعد" انتہی  
"فتاویٰ اشیع ابن باز" (25/171)

حدیث سے ظاہر ہونے والے مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اس کیلئے کامل و مکمل حج و عمرے کا ثواب ہو گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عنایت فرمادے۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا:

"ایک حدیث میں ہے کہ: (جو شخص نماز فر بر کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھا رہے تو اس کیلئے مکمل و کامل حج و عمرے کا ثواب ہے) یا اسی سلسلے جملتے حدیث کے الفاظ ہیں، تو کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ: جو شخص یہ عمل کرے اس کیلئے حج اور عمرے کا ثواب ہے، یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟" تو انہوں نے جواب دیا:

"سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس حدیث کے بارے میں اہل علم مختلف رائے رکھتے ہیں چنانچہ بہت سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو تو ثواب کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنا درست نہیں ہے؛ کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ انسان کو تھوڑے سے عمل کے بدله میں بہت بڑا اجر ملے؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثواب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے وہ جسے چاہے عنایت فرمائے" انتہی  
"اللقاء الشری" (74/22)

رہا مسئلہ حج و عمرے کی ادائیگی اور اس عمل کے بارے میں توجیہ کیلئے مالی اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں جسمانی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نیز حج استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے اور اسلام کے اركان میں شامل ہے، جبکہ پیٹھنے کا یہ عمل اور پھر ذکر و نماز کی ادائیگی صرف حج کے ثواب میں حج کے ساتھ یکسا نیت رکھتا ہے؛ لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ

جس شخص نے یہ عمل کریا تو گویا اس نے حج و عمرہ کریا اور اس کی فریضہ حج و عمرہ بھی ادا ہو گیا۔

اسی سے ملتا جلتا عمل یہ بھی ہے کہ : جو شخص ایک دن میں سوربار کے : "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" تو اس کیلئے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اب اگر کسی شخص پر قسم کا کفارہ باقی تھا اور قسم کے کفارے میں بھی غلام آزاد کیا جاتا ہے تو یہ ذکر کرنے سے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہو گا۔

اہل علم اس قسم کے اعمال کے ثواب کے بارے میں کہتے ہیں : کہ اس سے مراد ان اعمال کی ثواب میں ان فرائض سے ایک طرح کی مشابہت ہے نہ کہ ان کی فرضیت سے کفاوت کا بیان ہے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمْ.